

9 نومبر 2018

## لوگوں کو مربوط کرنے، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی میں شاندار پیش رفت پر خصوصی توجہ کے لیے برامپٹن کی قومی سطح پر پذیرائی

برامپٹن، آن – سٹی آف برامپٹن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اپنی خدمات اور پروگراموں کا جائزہ لینے، انہیں بہترین شکل دینے اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے اوپن ڈیٹا تک رسائی کو بہتر بنانے کا عمل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔

8 نومبر کو منعقد ہونے والی کینیڈین اوپن ڈیٹا سمٹ کے موقع پر، برامپٹن کے جیو ہب کو اوپن ڈیٹا ایکسیبلٹی ایوارڈ 2018 کو فاتح ہونے پر ایک قومی رہنما کے طور پر تسلیم کیا۔

ڈیٹا کو اکٹھا اور شریک کرنے کا عمل کمیونٹی کے ساتھ مربوط ہونے کو آسان بناتا ہے۔ سٹی ڈیٹا کو جدت کا ایک اہم آلہ کار سمجھتا ہے – اس کے انداز اور رجحانات کو سمجھنے سے سمارٹ سٹی ٹیکنالوجیز کو ممکن بنانے کے لیے ثبوت ملتے ہیں، جو برامپٹن کے شہریوں کے لیے روزمرہ کی زندگی کے معیار کو بہتر کرتی ہیں۔

چیف انفارمیشن آفیسر کیتھرین گلسون کا کہنا تھا کہ "ہم پوری دنیا میں اربن سنٹرز میں ٹیکنالوجی کی جدت کے ذریعے بڑے پیمانے پر بڑھوتری دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ڈیٹا کو شہریوں، کاروباری مالکان، سرمایہ کاروں، طلباء اور معاشرے کے دیگر افراد کے لیے قابل رسائی بنانا ہمارے 2040 ویژن کے مطابق معاشی اور سماجی معاونت، عوامی صحت اور کمیونٹی کی حفاظت کے حوالے سے شراکت کے نئے مواقع پیدا کرتا ہے۔ ایک سمارٹ سٹی ہونے کا یہی مطلب ہے: معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا۔"

برامپٹن کا 2040 کا ویژن پانچ اہم نقاط کی رہنمائی میں عمل میں آیا ہے – جن میں سے ایک "ٹیکنالوجی" ہے۔ ایک سمارٹ سٹی حکمت عملی ایک ایسا فریم ورک ہے، جو اس نقطہ نظر کی حمایت کرے گا، جو سٹی انتظامیہ کو برامپٹن کو ایک مثالی شکل دینے میں ٹیکنالوجی کے کردار کو قابو کرنے میں مدد دے گا۔ شہروں کی تعمیر کے روایتی طریقہ کار کو للکار کر، 2040 کا ویژن اور اسمارٹ سٹی حکمت عملی نجی اور سرکاری شعبے کے درمیان مشترکہ ذمہ داری کا ماحول پیدا کرتی ہے۔

### مزید جانیں

برامپٹن کا جیو ہب کئی ایوارڈ جیتنے والی اوپن ڈیٹا سائٹ ہے۔ جیو ہب دیگر میونسپل اوپن ڈیٹا سائٹس سے مختلف ہے کیونکہ یہ ڈیٹا کی ڈاؤن لوڈ سے بڑھ کر ہے – عوام بذریعہ استنبصار اور تجزیوں کے ٹولز کے ذریعے سٹی کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں۔

- [ہمارے جیو ہب اور یہ کہ اوپن ڈیٹا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں](#)، کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھیں۔
- برامپٹن کی خدمات کی کارکردگی اور کمیونٹی کے لیے اقدامات کے متعلق معلومات کے لیے [سٹی ڈیٹا بورڈ](#) ملاحظہ کریں۔
- اس بارے میں جاننے کے لیے [برامپٹن 2040 ویژن](#) پڑھیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے کیا چیز اہم ہے۔
- سٹی کے [نقشوں](#)، [ایس](#)، [داستانوں](#) اور [ڈیٹا سیٹس](#) کے بارے میں مزید گہرائی میں جانیں۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

كرستين شرما  
ميديا ريليشنز  
مشى اف برامپتون

905.874.2880 | [christine.sharma@brampton.ca](mailto:christine.sharma@brampton.ca)